



جہنم برابر یہی کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور ہے کیا کچھ اور ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دیں گے اس پر وہ کہے اٹھ گئے: بس بس میں بھر گئی، تیری عزت کی قسم! (اس کے بعد) جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصہ میں ضم ہو جائے گا

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جہنم برابر یہی کہتی رہے گی: کیا کچھ اور ہے؟ یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس میں رکھ دے گا، تو وہ کہے اٹھ گئے: بس بس، تیری عزت کی قسم! اور جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصہ سے مل جائے گا“
[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ وہ جہنم سے پوچھے گا: کیا تو بھر گئی؟ یہ پوچھنا اس لیے ہوگا کیونکہ اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس جنات اور انسانوں سے بھر دے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ جسے اس میں ڈالنا ہوگا اسے اس میں ڈالنے کا حکم دے گا اور وہ اس میں جھونک دبا جائے گا جہنم کہے جا رہی ہے: کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی کوئی ایسی شے باقی ہے جو تو مجھ میں اضافہ کرے؟ یہاں تک کہ رب العزت اپنا قدم اس میں رکھ دے گا اس پر وہ بول اٹھے گی: یہ مجھے کافی ہے اور پھر سمیٹ کر کہ اس کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے ملا دیا جائے گا صفت قدم کی یہ تاویل کرنا جائز نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا اور نہ ہی دیگر باطل تاویلات کا ساتھ دینا جائے گا بلکہ بغیر کسی تحریف و تعطیل اور بنا کسی تکلیف و تمثیل کے اللہ کے لیے صفت قدم کا اثبات کرنا واجب ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/8312>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

